



سوال

(477) رافضی کی اذان کا جواب دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لاہور سے ابو عکاشہ دریافت کرتے ہیں کہ جب رافضی مؤذن علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فضل کسے تو کیا اہل سنت سامعین کو یہ سن کر لفظ اللہ علی الکاذبین کہنا درست ہے یا نہیں نیز ایک رافضی کا جنازہ اہل سنت امام نے پڑھایا ہے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا یا اسے اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا کیا یہ صحیح ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

روافض دراصل یہود مجوس کی مشترکہ سازش کی پیداوار ہیں انہوں نے عقائد و نظریات اور عبادات و معاملات کے متعلق ایک ایسا متوازی دین قائم رکھا ہے جو دین اسلام کے بالکل متضاد ہے اذان میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ بلا فضل جیسے کلمات کا اضافہ ان کے ہاں رائج متوازی دین کی ایک مثال ہے یہ اضافہ خلاف اسلام ہے بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بالخصوص خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض و عداوت کی ایک بدترین مثال ہے ایمانی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس طرح کے جھوٹے پرہیزی کلمات سن کر لفظ اللہ علی الکاذبین کہا جائے انسان کو حق پرستی کے جوش میں مخاطب کو اندھا بہرا کر دینے والی بات نہیں کہنا چاہیے مبادا وہ بھی بدزبانی پراثر آئے اور وحی الہی کے اولین مخاطبین اور اصل حاملین اسلام کے متعلق یا وہ کوئی شروع کر دے قرآن کریم میں اس قسم کا انداز اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے سوا یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو کہ (اس کے نتیجے میں) وہ تجاوز کر کے جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ (6/ الانعام: 109)

صورت مسئلہ میں اگر اس قسم کے جھوٹے کلمات سننے والا اکیلا ہے یا چند ایک ہم ذہن ہیں تو اس لعنت کا برملا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن اگر مخاطب سامنے ہے تو دل میں کہہ دیا جائے تاکہ وہ ہمارے اکابر کے متعلق بدزبانی نہ کریں اگر کسی اہل سنت امام نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے رافضی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے تو اسے معذور تصور کیا جائے اور اگر دانستہ طور پر ایسا کام کیا ہے تو وہ بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے افہام و تفہیم کے ذریعے اس جرم کی سنگینی کا اسے احساس دلایا جائے ہنگامہ درست نہیں اور نہ ہی ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے اگر امام کو اس فعل پر کوئی ندامت نہ ہو بلکہ وہ اپنے فعل کے صحیح ہونے پر اصرار کرتا ہے تو ایسے امام کو امامت سے مزل کر دیا جائے کیوں کہ درپردہ روافض کا حمایتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی محبت پیدا فرمائے اور ان کی عزت و ناموس کے دفاع کی توفیق دے (واللہ اعلم)

حذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 478